

か 7課

あんぜん 安全に くらす

محفظة رينا



もくひょう 目標

مقصد

1. 110番、119番に 電話します
ضرورت پڑنے پر 110، 119 نمبر پر فون کریں

2. 災害情報が わかります
آفات سے متعلق معلومات حاصل کرنا

3. 災害のとき 避難できるように 準備します
کسی آفت کی صورت میں انخلاء کی تیاری کرنا

4. 災害のあと 安心して生活できるように 準備します
آفت کے بعد محفوظ زندگی گزارنے کی تیاری


0.

べんきょうのまえに پڑھائی سے پہلے

دُنْوَبَانِجُوْهُ نَمْبَانِدُسْكُا۔ آپ کا فون نمبر کیا ہے۔



نَمْبَانِي دُنْوَبَانِدُسْكُا۔ کس نمبر پر فون کرنا ہے۔



あなたのかくにで けいさつや きゅうきゅうしゃは なんばんですか。

آپ کے ملک میں پولیس اور ایمبولینس کا کیا نمبر ہے۔

けいさつや きゅうきゅうしゃを よんだことが ありますか。

کیا آپ نے کبھی پولیس یا ایمبولینس کو فون کیا ہے۔

1.

110番、119番に 電話します
ضرورت پڑنے پر 110، 119 نمبر پر فون کریں

ひとに たすけてもらいます
کسی کو مدد کے لئے بلانا



すみません、たすけてください！

Sumimasen, tasuketekudasai!

براه کرم میری مدد کریں



すみません、じこ です。
けいさつ を よんでください。

Sumimasen, jiko desu.
Keesatsu o yondekudasai.

کوفون کریں～براه کرم / ~を よんでください



じこ
jiko
حادثہ



きゅうびょう
Kyuubyoo
غير متوقع بیماری



けが
kega
چوٹ

ひとを たすけます
کسی کی مدد کرنا



だいじょうぶですか。
きゅうきゅうしゃ を よびましょうか。

Daijoobu desuka.
Kyuukyuusha o yobimashooka.

کیا～کو فون کروں / ~を よびましょうか

110に でんわして じけんか じこか いいます

پر فون کرنا اور بتانا کہ یہ کوئی حادثہ ہے یا واقعہ



110 : じけんですか。じこですか。

A : じこです。くるまの じこです。



110 : Jiken desuka. Jiko desuka.

A : Jiko desu. Kuruma no jiko desu.

واقعہ / واقعه / حادثہ / چور / ڈریبل / لڑائی / چکنہ / چکنہ

119に でんわして かじか きゅうきゅうか いいます

پر فون کر آگ یا ایمبولینس کا بتانا



119 : かじですか。きゅうきゅうですか。

A : きゅうきゅうです。けがです。

119 : Kaji desuka. Kyuukyuu desuka.

A : Kyuukyuu desu. Kega desu.

آگ / چوت / کاج / کج / ایمرجنسی / غیر متوقع بیماری / کیوں کیوں

救急車は無料です。お金は、いりません。でも、病院の診察代は、いります。

ایمبولینس مفت ہے۔ پیسے نہیں لگینگ۔

تاہم، آپ کو ہسپتال کی فیس ادا کرنے کی ضرورت ہوگی۔

باشیو یہیں جگہ بتانا اپنی


110 : どこですか。

A : HAT こうべの びじゅつかん の ちかく です。

110 : Doko desuka.

A : HAT Kobe no bijutsukan no chikaku desu.

آپ کہاں ہے / چکاک / میں ~ پاس ہوں / ~ کے چکاک



بیجیو ٹکان bijutsukan

عجائب گھر



گاکو گاکو gakkoo

سکول



えき eki

سٹیشن

نامے تو ڈن وابان گو یہیں ہے

نام اور فون نمبر بتانا

110 : あなたの なまえと ڈن وابان گو یہیں ہے おねがいします。

A : なまえは _____ です。ڈن وابان گو یہیں ہے _____ です。

110 : Anata no namae to denwabangoo o onegaishimasu.

A : Namae wa _____ desu.

Denwa bangoo wa _____ desu.

نام / ہے نامے ڈن وابان گو / ڈن وابان گو

ترجمان کی درخواست کرنا つうやくを おねがいします

兵庫県の警察には通訳がいます。日本語がむずかしいとき、「～語の通訳をお願いします」と言いましょう。※通訳がない言葉もあります。

پیوگو پریفیکچر پولیس ڈیپارٹمنٹ کے پاس ترجمان موجود ہے۔
اگر جاپانی مشکل ہو تو کہیں کہ "مجھے ~ زبان کا ترجمان چاہیے"
* کچھ زبانوں کے ترجمان موجود نہیں ہے۔



110：どのような じょうきょうでしたか。

A : すみません。にほんごが あまり わかりません。
_____ ごの つうやくを おねがいします。

110 : Donoyoona jookyoo deshitaka.

A : Sumimasen, Nihongo ga amari wakarimasen.
_____ go no tsuuyaku o onegaishimasu.

كيسى كيفيت تهى / どのような じょうきょうでしたか
مجھے جاپانی اچھی طرح سے سمجھ نہیں آئی
براه کرم انگریزی ترجمان فراہم کریں / えいごの つうやくを おねがいします

さいきん どんな じけんや じこが おおいですか。
حال میں کس قسم کے واقعات اور حادثات رونما ہوئے ہیں۔

2.

災害情報が わかります آفات سے متعلق معلومات حاصل کرنا

にほんの さいがい جاپان میں آفات



たいふう
Taifuu
تائفون



どしゃさいがい
Dosha saigai
لینڈ سلائیڈن
(تلچھٹ کی تباہی)



おおあめ
Ooame
تیز بارش



こうずい
Koozui
سیلاب



じしん
Jishin
زلزلہ



つなみ
Tsunami
سونامی



おおゆき
Ooyuki
شدید برف باری




たつまき
Tatsumaki
طوفان

あなたのくにに どんな さいがいが ありますか。

آپ کے ملک میں کونسی آفات آتی ہیں۔

たいふうの てんきよほうを よみとります
تائfon کے سلسلے میں موسم کی پیشگوئی پڑھیں

たいふう 台風



出典:気象庁ホームページ「台風経路図」 (<http://www.jma.go.jp/jp/typh/>)

1. たいふうは いま どこですか。
Taifuu wa ima dokodesuka.


2. ひょうごけんは どこですか。
Hyogoken wa dokodesuka.

3. たいふうは いつ ひょうごけんへ きますか。
Taifuu wa itsu Hyogoken e kimasuka.



たいふうが きます。なにを しますか。
تائfon آنے والا ہے۔ کیا تیاری کرینگ۔

چیک کریں کہ کوئی وارننگ تو نہیں ہے



あなたのまちはどこですか。

آپ کا شہر کون سا ہے۔

ひょうごけん
兵庫県の

Hyogoken no

し　　ちょう
市／町



ひょうごけん
兵庫県の

ほくぶ　なんぶ
北部・南部

Hokubu・Nanbu

ひょうごけん
兵庫県の

Hyogoken no

ちいき
地域

chiiki



あなたのまちにけいほうはでていますか。
کیا آپ کے شہر میں کوئی وارننگ آئی ہے۔


ひょうごけんなんぶ おおあめけいほう
兵庫県南部に 大雨警報です

Hyogoken nanbu ni ooamekeehoo desu

たじまちいき いちぶ
但馬地域の一部に
ぼうふうけいほう で
暴風警報が出ています
Tajima chiiki no ichibu ni
boofuukeehoo ga deteimasu



تیز بارش کی وارننگ / おおあめけいほう
طوفان کی وارننگ / ぼうふうけいほう



いろいろな言語で警報の情報をみることができます。
آپ مختلف زبانوں میں الٹ کی معلومات دیکھ سکتے ہیں۔



気象庁 気象警報・注意報
موسم کی انتباہات / محکمہ موسمیات
<https://www.data.jma.go.jp/multi/>



ひょうご防災ネット
پیوگو ڈیزاسٹر پریوینشن نیٹ
<https://bosai.net/>

じしんのじょうほうを よみとります
زلزلہ کی معلومات پڑھنا



1. いつ じしんが ありましたか。

Itsu jishin ga arimashitaka.

2. あなたの まちの しんどは いくつですか。

Anata no machi no shindo wa ikutsu desuka.

زلزلہ کی شدت / しんど Shindo 震度



じしんです！ どうしたらいいですか。

یہ زلزلہ ہے! کس طرح کرو۔



まとめクイズ

こんなとき、どうしますか。どうしてですか。

اس صورت میں کیا کریں۔ کیون۔

おおあめです

Ooame desu



つなみです！

Tsunami desu!




じしんです！

Jishin desu!



たいふうが きます

Taifuu ga kimasu




そとのものを うちに いれます

Soto no mono o uchi ni iremasu



たかいばしょへ いきます

Takai basho e ikimasu



うみや かわへ いきません

Umi ya kawa e ikimasen



あたまを まもります

Atama o mamorimasu



3.

さいがい
災害のとき ひなんできるように 準備します
کسی آفت کی صورت میں انخلاء کی تیاری کرنا

おおあめのとき いつ ひなんしますか
شدید بارش کے وقت آپ کو کب انخلاء کرنا چاہئے



レベル
5

きんきゅうあんせんかくほ
緊急安全確保
ایمنجنی سیفٹی



あぶない!
خطره!

にげろ! / にげて!
باہر بھاگ!
انخلاء کریں
ひなんしてください



レベル
4

ひなんしじ
避難指示
انخلاء کی پدایات



レベル
3

こうれいしやとうひなん
高齢者等避難
بزرگ لوگوں کا انخلاء



レベル
2

ちゅういほう
注意報
الرٹ وارننگ



ひなんします
انخلاء کی ہے

あんせんばしょへ いきます
کسی محفوظ جگہ پر جائیں

どこへ ひなんしますか。あなたのうちちは あんせんですか。

آپ کہاں انخلاء کریں گے۔ کیا آپکا گھر محفوظ ہے۔



ハザードマップ
خطے کا نقشہ

やくしょで ハザードマップを もらいましょう。
میونسپل آفس سے خطرے کا نقشہ حاصل کریں۔

1. あなたのうちちは どこですか。ハザードマップで さがします。

آپکا گھر کہاں ہے۔ اسے خطرے کا نقشہ میں دیکھئیں۔

2. あなたのうちの ちかくで さいがいのしんぱいが ありますか。

کیا آپ کے قریب کسی آفت کا خطرہ ہے۔



どしゃさいがい
→ はい・いいえ



つなみ
→ はい・いいえ
()m の つなみ



こうずい
→ はい・いいえ
()m の こうずい

あなたのうちちは なんかい 何階ですか。
آپ کا گھر کس منزل پر ہے۔



3. うちが あんせんじやないとき、緊急避難場所や避難所へ いきます。


اگر یہ گھر محفوظ نہیں ہے تو، ہنگامی انخلاء کی جگہ یا انخلاء مرکز پر جائیں۔

うちのちかくの きんきゅうひなんばしょ、ひなんじょ

どしゃさいがいのとき →

こうずいのとき →

つなみのとき →



4. さいがいのとき どうするか かぞくとはなしてください。

آفت کے وقت کیا کرنا ہے یہ گھر کے لوگوں کے ساتھ بات کریں۔

どこで かぞくと あいますか。
کہاں پر سب لوگ ملینگ۔



ひなんするとき なにを もっていきますか。
نکالنے وقت آپ کو کیا لے کر نکلنا ہے۔



ひじょうもだぶくろ
非常持ち出し袋

ایمرجنسی راحت بیگ



パスポート

さいふ

スマートフォン



HIA 「こどもと おやの ぼうさい ガイドブック」

HIA بچوں اور والدین کے لیے آفات سے بچاؤ گائیڈ بک

災害と避難について、くわしくわかります。

آفات اور انخلاء کے بارے میں مزید جانیں۔

<https://www.hyogo-ip.or.jp/torikumi/tabunkakyose/guidemap.html>

4.

災害のあと 安心して生活できるように 準備します
آفٽ کے بعد محفوظ زندگی گزارنے کی تیاری

じぶんのうちで せいかつします اپنے گھر میں رینا

すいどう、ガス、でんきが とまるかもしれません。
うちで なにを じゅんびしておきますか。
پانی، گیس اور بجلی کی سپلائی منقطع ہو سکتی ہے۔
گھر میں کیا تیاری کرنی چاہیے۔



びちくひん
ذخیرہ کرنے کا سامان



みず	
かんづめ	
トイレットペーパー	
でんち	

A : うちに かんづめ が ありますか。

B : はい、あります。 / いいえ、ありません。



A : Uchi ni kanzume ga arimasuka.


B : Hai, arimasu. / Iie, arimasen.

さいがいのとき あなたのうちの ちかくの きゅうすいじょは どこですか。

آپ کے گھر کے قریب وائز سٹیشن کہاں ہے؟



ひなんじょで せいかつします پناہ گاہ میں رینا



避難所は、地震などで家がこわれた人達がしばらくいっしょに生活するところです。支援物資や災害の情報があります。みんなで助け合いながら運営します。だれでも無料で利用できます。

انخلاء کا مرکز وہ جگہ ہے جہاں وہ لوگ جن کے گھر زلزلے وغیرہ سے تباہ ہوچکے ہیں وہ کچھ وقت رہتے ہیں۔

امدادی سامان اور آفات سے متعلق معلومات وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد سے مل جل کر اس کا انتظام چلا جاتا ہے۔

یہ سب کے لیے مفت ہے۔

ちかくの ひなんじょ →



A : すみません、もうふ が ありますか。

B : はい、あります。 / すみません、いま ありません。

A : Sumimasen, moofu ga arimasuka.

B : Hai, arimasu. / Sumimasen, ima arimasen.



もうふ
كمبل



ミルク
دوده



たきだし
کھانا پکانا اور تقسیم کرنا

ひなんじょのせいかつで どんなことが しんぱいでですか。

کیا آپ کو انخلاء کے مرکز میں رینے سے متعلق کوئی تشویش ہے۔



ひなんじょ つか たげんごゆび
「避難所で使える多言語指さしボード」
کثير لسانی پوائنٹنگ بورڈ جو انخلاء کے مرکز میں استعمال کیا جاتا ہے
https://www.hyogo-ip.or.jp/torikumi/saigaiji_gaikokujin_shien/yubisashi_board.html

ひとを てつだいます لوگوں کی مدد کرنا


てつだいます。
Tetsudaimasu.

いっしょに いきましょう。
Isshoni ikimashoo.



だいじょうぶですか。
Daijoobudesuka.


えいご で かきましょうか。
Eego de kakimashooka.



_____ ご で つたえましょうか。
_____ go de tsutaemashooka.

いっしょに はこびましょう。
Isshoni hakobimashoo.

مدد کرنا / ہم کو مدد کرنے کا ہے
ایکجاں کے لئے ہم کو مدد کرنے کا ہے
ایکجاں کے لئے ہم کو مدد کرنے کا ہے
انگریزی میں لکھیں کیا
کیا میں ~ زبان میں بتاؤں



さいがい 災害のとき、あなたは 人に どんなことを てつだってもらいたいですか。

あなたは どんなことなら てつだうことができますか。

آفت کے دوران آپ لوگوں سے کس طرح کیمدد چاہتے ہیں۔
آپ کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں۔

せいかつを たてなおします زندگی کی تعمیر نو



やくしょ
میونسپل آفس



すみません、ぎえんきんについて、
えいごのじょうほうがありますか。

Sumimasen, shienkin nitsuite,
Eego no joohoo ga arimasuka.

/ اس ~ کے متعلق / ~について
/ معلومات / じょうほう

ぎえんきん
عطیات

ボランティア
رضاکار

りさいしようめいしょ
آفت زدگی کا سرٹیفیکیٹ



りさいしようめいしょ Risai Shomeisho
آفت زدگی کا سرٹیفیکیٹ

市役所に、自宅が被害にあったことを申請する書類です。り災証明書があると、生活再建のための給付金や公共料金の減免、仮設住宅への入居等、被害程度に応じて支援を受けることができます。在留カードの再発行もできます。

یہ ایک دستاویز ہے جسے آپ میونسپل آفس میں جمع کرانے پیں تاکہ یہ اطلاع دی جائے کہ آپ کے گھر کو نقصان پہنچا ہے۔
اگر آپ کے پاس آفت زدگی کا سرٹیفیکیٹ ہے، تو آپ نقصان کے لحاظ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں
جیسے اپنی زندگی کی تعمیر نو کے لیے ریلیف فنڈ، یوٹیلیٹی فیس میں کم، اور عارضی
ربائش میں منتقل ہونا۔
ربائشی کارڈ بھی دوبارہ جاری کرو سکتے ہیں۔

被害の写真を撮っておくといいです→
نقصان کی تصاویر لے کر رکھنا بھی رکھ سکتے ہیں



にほんごのかたち جاپانی زبان کی شکل

_____に_____があります。

へやになにがありますか。


Heya ni nani ga arimasuka.

کمرے میں کیا ہے۔

へやにおおきいほんだながあります。

Heya ni ookii hondana ga arimasu.

کمرے میں کتابوں کی ایک بڑی الماری ہے۔



うちにびちくひんがありますか。

Uchi ni bichikuhin ga arimasuaka.

کیا آپ کے گھر میں رسد اور دوسرا ضروری چیزوں کا ذخیرہ ہے۔



はい、あります。

Hai, arimasu.

ہاں ہے۔

いいえ、ありません。

Iie, arimasen.

نهیں ہے۔

